

مریض کی معلومات: PAXLOVID کے سبب جگر کے

PAXLOVID ان بالغوں کے اسپتال میں بھرتی ہونے یا موت سے روک تھام کرتی ہے جنہیں COVID-19 کی وجہ سے شدید بیمار ہونے کا اعلیٰ خطرہ ہو۔ اسے ان 5 دنوں کے اندر لیا جانا چاہیے جب COVID-19 کی علامات شروع ہوں۔

PAXLOVID کیا ہے؟

PAXLOVID ایک نئی دوا ہے جسے ان لوگوں کے ہلکے تا معتدل COVID-19 کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا

ہے جو:

▶ 12 سال یا اس سے زائد عمر کے ہیں جن کا وزن کم از کم 88 پاؤنڈز ہو

▶ COVID-19 وائرل ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہو

▶ شدید COVID-19 کے اعلیٰ خطرے میں ہوں بشمول اسپتال میں بھرتی ہونا اور موت

PAXLOVID ایک دوا ہے جسے بذریعہ منہ (گولی کونگلتے ہوئے) 5 دنوں کے لیے لیا جاتا ہے۔ علامات کے حل سے قطع نظر علاج کا کورس مکمل کیا جانا چاہیے۔

یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) نے COVID-19 عالمگیر وبا کے دوران PAXLOVID دستیاب کرانے کے لیے ایک ایمرجنسی استعمال کا اجازت نامہ (EUA) جاری کیا ہے۔ PAXLOVID یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ایک FDA کی منظور شدہ دوا نہیں ہے۔



اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو بتائیں اگر آپ:

▶ کو کوئی الرجیا ہوں

▶ کو گردے یا جگر کی بیماری ہو

▶ حاملہ ہوں، حاملہ ہو سکتی ہوں

▶ بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہوں

▶ کوئی سنگین بیماری ہو

▶ کوئی دوائیں (نسخہ جاتی، بغیر ڈاکٹری نسخے کے ملنے والی، وٹامنز یا جڑی بوٹیوں کی مصنوعات) لے رہے ہیں

▶ اگر آپ مشترکہ ہارمونل مانع حمل ادویات لے رہے ہیں (PAXLOVID اس بات کو متاثر کر سکتی ہے کہ آپ کی

ضبط تولید کی گولیاں کیسے کام کرتی ہیں)



کیا PAXLOVID ضمنی اثرات کی حامل ہے؟

▶ PAXLOVID آپ کی جانب سے لی جانے والی دوسری ادویات کے ساتھ تعامل کر سکتی

ہے۔ اپنے ڈاکٹر کو اپنی تمام موجودہ دواؤں کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔

▶ PAXLOVID کے سبب جگر کے مسائل ہو سکتے ہیں۔

▶ PAXLOVID کے سبب HIV دواؤں کے تئیں مزاحمت ہو سکتی ہے۔

▶ دیگر ممکنہ ضمنی اثرات میں شامل ہیں:

< ذائقہ کی بدلی ہوئی حس

< اسپہال

< اعلیٰ فشار خون

< عضلات کے درد



اگر آپ کا COVID-19 ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہو تو علاج کے اختیارات کے بارے میں اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کنندہ سے فوراً بات کریں۔ تمام دستیاب معالجات کے لیے ایک نسخہ درکار ہوتا ہے۔

